

سیلاب کے بعد بجلی بند ہونا

سیلاب کے بعد بجلی بند ہونے کے متعلق معلومات

اردو | Urdu

OFFICIAL

سیلاب کے بعد بجلی واپس آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ اگر بجلی بند ہو تو آپ نیچے دیے گئے مشوروں پر عمل کر سکتے ہیں۔

خوراک کو محفوظ رکھنے کے لیے مشورے

- بجلی بند ہونے سے آپ کی خوراک متاثر ہو سکتی ہے، یہ کام یاد رکھیں:
 - ✓ فریج کی چیزیں فریجز میں رکھ دیں
 - ✓ اپنی خوراک کو ہر ممکن حد تک ٹھنڈا رکھیں، اس کے لیے آپ خوراک کے پیکیٹوں پر برف کی تھیلیاں یا انسولیٹنگ بلینکٹ رکھ سکتے ہیں
 - ✓ اگر آپ کی خوراک چھونے پر ٹھنڈی لگے (5 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم) تو اسے استعمال کرنا محفوظ ہے
 - ✓ اگر آپ کی خوراک چھونے پر ٹھنڈی نہ لگے تو اسے چار گھنٹوں تک رکھا اور کھایا جا سکتا ہے اور پھر اسے پھینکنا یا پکا کر کھانا ضروری ہو جائے گا
 - ✓ تیز گرم خوراک کو چار گھنٹوں تک کھا لیں یا پھینک دیں
 - ✓ اگر فریجز میں رکھی چیزیں بجلی واپس آنے کے وقت بھی سخت ہوں تو انہیں فریجز میں رکھنا محفوظ ہے۔

پاور جنریٹر کے استعمال کے لیے تجاویز

- جب بجلی بند ہو تو جنریٹر استعمال کرنا عام ہے۔ جنریٹر استعمال کرنے سے پہلے ان تجاویز پر عمل کریں:
 - ✓ یہ یقینی بنائیں کہ پٹرول یا ڈیزل کے جنریٹر کو باہر کھلی اور خوب ہوادار جگہوں پر استعمال کیا جائے کیونکہ اس سے کاربن مونوآکسائیڈ نام کی زہریلی گیس نکلتی ہے جو آپ کو شدید بیمار کر سکتی ہے
 - ✓ پورٹیبل جنریٹر یا باہر استعمال کے جنریٹر کو گھر کے اندر استعمال نہ کریں کیونکہ یہ کاربن مونوآکسائیڈ نام کی زہریلی گیس، کرنٹ لگنے یا آگ لگنے کا باعث بن سکتا ہے
 - ✓ مستقل جنریٹر لگوائیں کیونکہ یہ بجلی بند ہونے کی صورت میں بجلی فراہم کرنے کے لیے بہترین ہیں
 - ✓ اپنے جنریٹر کو خشک جگہ پر رکھیں۔ آپ کو پٹرول گھر سے باہر کسی محفوظ جگہ پر رکھنا چاہیے
 - ✓ جنریٹر کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے ہاتھ خشک کریں
 - ✓ جنریٹر کو آن کرنے سے پہلے چیک کریں کہ تاروں یا بجلی کے دوسرے پرزوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے
 - ✓ جنریٹر میں پٹرول یا ڈیزل ڈالنے سے پہلے اسے آف کریں اور ٹھنڈا ہونے دیں۔ انجن کے گرم پرزوں پر پٹرول گرنے سے آگ لگ سکتی ہے

- ✓ بیوی ڈیوٹی ایکسٹینشن تار استعمال کر کے جنریٹر میں آلات پلگ کریں
- ✓ دیوار میں بنے بجلی کے آؤٹ لیٹ میں جنریٹر کا پلگ لگا کر گھر کی تاروں میں بجلی پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔

مدد حاصل کریں

- گیس یا بجلی کے محفوظ استعمال کے متعلق مزید معلومات کے لیے 9203 9700 پر Energy Safe Victoria سے رابطہ کریں یا یہاں جائیں:
www.esv.vic.gov.au
- گیس لیک ہونے کی اطلاع دینے کے لیے 132 771 پر کال کریں۔

اس اشاعت کو معذور افراد کے آسان فارمیٹ میں حاصل کرنے کے لیے pph.communications@health.vic.gov.au پر ای میل کریں۔